

85. Api do msoa agamo luyen kundei Islam, si coa kan timo, nak akhirat si tmasuk tun do rugai. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾
86. Gero Allah akan mlei ptunjuk magea tun kafia sesudo si berimen, serto makau bahwa Rasul (Muhammad) o bne-bnea (rasul) ngen bukti-bukti do jlas bi sapei ngen si?, Allah coa mlei ptunjuk ngen tun zalim. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعَدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾
87. Tobo o, bales ne adeba kno laknat Allah, pao mlikat ngen manusio kekute ne. أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾
88. Tobo o slamo ne nak lem o, coa kan nlgan sikso ne, coa kulo nlei pnanggihan. خَالِدِينَ فِيهَا لَا تُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾
89. Kecuali tun do tobat sesudo o, ngen kemerjo do baik, mako nyen, Allah Maha Pengampun, Maha Pnyayang. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾
90. Nyen, tun do kafia sesudo berimen, sudo o btambeak kafia ne, coa kan tnimo tobat ne, tobo o ba tun seset. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعَدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾
91. Nyen, tun kafia ngen matei dong kafia, coa kan tnimo (tebus) kundei do tun antaro ne walau (brupo) mas pnua bumai, skiro ne si lok tembus ngen do o. Tobo o ba do dapet sikso do pelgiak ngen coa dapet pnulung. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

JUZ IV

92. Udi coa kan dapet kbaikan, seblum udi menginfaqqan pao harto do udi cmito. Jano bae do udi infaqqan, nyen, Allah Maha Mengetahui. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

93. Kute kmbuk o halal utuk bani Israil, kecuali kmbuk do diharamkan oleh Israil (Ya'kub) utuk ne waktau Taurat ati tuun. Nadeak ba (Muhammad), "mako nmbin ba taurat sudo o baco ba, amen udi tun do bnea ne".
 ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣١﴾
94. Mako api do mngike magea Allah sesudo o, mako tobo o ba tun zalim.
 ﴿فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٢﴾
95. Nadeak ba (Muhammad), "benea ba (kute firman) Allah." Mako masuk ba agamo Ibrahim do luus, si coa kulo tun musyrik.
 ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٣﴾
96. Nyen, bahwa umeak (kakea semyang) pertama do nbangun utuk manusio, adeba (baitullah) do nak Bakkah (Mkeak) do nlei berkat ngen jijai ptunjuk utuk kute denyo.
 ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٣٤﴾
97. Nak o ade tando-tando do jlas, (contoh ne) maqam Ibrahim. Api masuk (Baitullah) aman ba si. Ngen kwajiban manusio magea Allah adeba kemerjo ajai moi Baitullah, utuk tun do nam ne alau mindi. Api muker (kwajiban) janjai, mako kemliak ba Allah Maha Kayo (coa perlu jejano) ngen kute denyo yo.
 ﴿فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٥﴾
98. Nadeak ba (Muhammad), "Wahai ahli kiteb! Getai udi muker ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Kemliak gesi do udi kemerjo?."
 ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٦﴾
99. Nadeak ba (Muhammad), "wahai ahli kiteb! Getai udi temgeak tun berimen kundi dalen Allah, udi kemlok ne (dalen Allah) brikok, padahal udi kemliak?". Allah coa lingek magea gesi do udi kemerjo.
 ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾

100. Wahai tun beriman! Amen udi tmasuk tun do nlei kiteb, mako tobo o akan meleak udi jijai kafia sesudo beriman.
- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوتُوْا
اَلِكِتٰبَ يَّرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمٰنِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾
101. Gero udi sapei ijai kafia, padahal ayat-ayat Allah nbaco magea udi serto Rasul Ne (Muhammad) ade ngen udi? Api tguak mgong agamo Allah, mako nyen, si akan nlei ptunjuk do luus.
- وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ عَلٰیكُمْ ءَايٰتُ اللّٰهِ
وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِم بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾
102. Wahai tun beriman! Btakwa ba magea Allah cao sbenea ne, jibeak sapei udi matei kecuali nak lem keadaan Islam.
- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُوْا
اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾
103. Bpegong tguak ba udi kute ne magea tilai (agamo) Allah, ngen jibeak bcei, ninget ba nikmat Allah magea udi waktua udi bel o (maso jahiliyah) musak, sudo o Allah smatu atei udi, singgo ngen karunia Ne udi jijai pasuak, sedangkan waktua o udi dong nak pengger jurang nrako, sudo o Allah sealamat. Awei o ba Allah tem'ang ayat-ayat Ne magea udi supaya udi dapat ptunjuk.
- وَاَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا ۗ وَاذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءَ ۙ فَاَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ
فَاَصْبَحْتُمْ بِيَعْمٰتِهٖۙ اِخْوٰنًا وَاَنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنْ
النّٰرِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ ءَايٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾
104. Seharus ne ade pao kundi udi de majook moi baik, smayo kemerjo do makruf ngen temgeak kundi do munkar. Tobo o ba tun do butung.
- وَلَنْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلٰى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾
105. Jibeak ba udi jijai awei tun do bcei sesudo sapei keterangan jlas. Tobo o ba tun do dapet sikso bnek.
- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاَحْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾
106. Pado bilai o ade muko crah, ade kulo do mleu duko. Tun do muko mleu duko (nadeak utuk ne) "getai udi kafia sesudo beriman? Kerno o nding ba sikso akibat udi kafia o.
- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَّتْ
وُجُوْهُهُمْ اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمٰنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

107. Adepun tun do muko ne crah, tobo o nak lem rahmat Allah (sergo), tobo o slamo ne nak lem o.
- وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾
108. Do o ba ayat-ayat Allah do nbaco keme magea udi cao bnea, Allah coa lok menzalimi (api bae) nak denyo yo.
- تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾
109. Allah ba temwan gesi bae do ade nak lenget ngen nak bumai, ngen Allah ba kute urusan neleak.
- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلٰى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٠٩﴾
110. Udi (umat Islam) adeba umat do paling baik do laher utuk manusio, (kerno udi) smayo (mnea) do makruf ngen temgeak do munkar serto berimen magea Allah. Sekiro ne ahli kiteb berimen, pasti do o lebiak baik bagi ne. Pao kundi tobo o ade do berimen, tapi dau do fasik.
- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾
111. Tobo o coa kan jijai bahayo bagi udi, kecuali ganggau-ganggau didik, amen si semrang udi si dewek akan mundur belek (aleak). Tobo o coa dapet ptulung.
- لَنْ يَضُرُّوكُمْ اِلَّا اَذًى ۗ وَاِنْ يُقْتَلُوْكُمْ يُؤْتُوْكُمْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصِرُوْنَ ﴿١١١﴾
112. Tobo o dapet ino nak ipe bae si tinggea, kecuali amen si (bepegong) ngen tilai (agamo) Alah ngen tilai (janjai) ngen manusio. Tobo o nengiak Allah ngen slalu saro. Do o kerno si muker ayat-ayat Allah ngen munuak paro nbai coa gen sbab (alasan do bnea). Do o kerno si durhako ngen melbiak batas.
- ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدَّلٰلَةَ اَيْنَ مَا تُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَاَبَءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاۗءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾
113. Tobo o coa (kute ne) srai. Nak antaro ahli kiteb ade kulo do jujur, si mbaco ayat-ayat Allah waktua kelmen ngen kulo sujud (semyang).
- ۞ لَيْسُوْا سَوَآءٌ ۗ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قٰئِمَةٌ يَتْلُوْنَ ءَايٰتِ اللّٰهِ ءَاثَآءَ اَلْيَلِ وَّهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

114. Tobo o berimen magea Allah ngen bilai kiamat, smayo (mnea) do makruf ngen temgeak kundi kemerjo munkar serto segro (kemerjo) do baik. Tobo yo tmasuk tun sholeh.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

115. Kerjo baik gesi bae do tobo o kmerjo coa gen do muker ne. Allah Maha Namen tun do btakwa.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

116. Nyen bahwa tun kafia, baik harto, kulo anak-anok ne, gok didik coa dapet tmulok sikso Allah. Tobo o dyem nak nrako slamo ne.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

117. Harto do tobo o jmijai infak nak denyo awei angin do mbin hawa do kelbiak sngok kno tanem tun sadei do menzalimi awok dewek, mako angin o musak tanem o. Allah coa menzalimi tobo o, tapi si dewek menzalimi awok ne.

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ
رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

118. Wahai tun berimen! Jibeak ba udi kemwat tun do lwea kundi udi (do agamo) jijai kwat baik, (kerno) tobo o coa kan bdan smaro udi. Tobo o bkinoi udi ajua. Bi kten bahwa si jngik ngen udi nak kecek ne, nak lem atei ne lebiak jahat igai. Nyen bahwa keme bi tem'ang ngen udi ayat-ayat (keme) amen udi lok ngertai.



















يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا
يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ ۗ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

119. Awei yo ba udi! Udi snang ngen tobo o padahal tobo o coa snang ngen udi, udi berimen ngen kute kiteb. Amen tobo o temau ngen udi, si madeak, "keme berimen" tapi amen si nak golongan ne, si mnget ujung jiai kerno mngiak serto jngik

هَتَأْتُمْ ءُولَاءِ تُحِبُّوهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ
كُلِّهِ ۗ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۗ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

<p>ngen udi. Nadeak ba, "matei ba udi kerno hmengiak udi o!". Allah Maha Namen kute isai atei.</p>	<p>بَدَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٢٦﴾</p>
<p>120. Amen udi dapet do baik, (mako) tobo o sdi, tapi amen udi kno musibah mako si snang. Amen udi sabar ngen takwa, pike ne coa kan mnea udi saro gok didik. Nyen Allah Maha Kemliak kute gesi do kenerjo ne.</p>	<p>إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٧﴾</p>
<p>121. (Ninget ba), waktau ko (Muhammad) brakat pado pweng bilai tminggea keluarga utuk matur tun berimen nak pos-pos prang. Allah Maha Mendengar ngen Maha Namen.</p>	<p>وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾</p>
<p>122. Waktau dwai kelompok kundi pihak nu lok mundur kerno saben padahal Allah adeba pnlung ne. Kerno o, baik ba magea Allah bae tun berimen betawakal (semreak dirai).</p>	<p>إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٩﴾</p>
<p>123. Nyen bahwa Allah bi tmulung udi nak prang Badar, padahal udi waktau o coa si grot. Kerno o betawakal ba ngen Allah supayo udi dapet syukur ngen Tuhan.</p>	<p>وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾</p>
<p>124. (Inget ba), wktau udi madeak ngen tun mukmin, "Jano coa cukup bagi udi Allah tmulung udi ngen tlaui ribau mlikat do tuun (kundi lenget)"</p>	<p>إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّدَ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٣١﴾</p>
<p>125. Au (cukup), amen udi sabar ngen siap siago, waktau tobo o semrang udi tetibo, mako Allah tmulung udi ngen lmo ribau mlikat do makei tando.</p>	<p>بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ يُمَدِّدْكُمْ هَذَا رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٣٢﴾</p>
<p>126. Allah coa mlei ptulung o kecuali utuk kabar baik utuk (kmenang) udi, ngen supayo tnang atei udi. Kmenang o cuma kundi Allah do Maha Perkasa ngen Maha Bijaksana.</p>	<p>وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٣٣﴾</p>

127. (Allah tmulung udi nak prang Badar ngen mlei ptulung) utuk munuak tun kafia atau utuk jmijai tobo o ino, sudo o tobo o belek coa gen mbin jevano. لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتِهِمْ فَيُنْقَلِبُوا حَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾
128. Coa gen gok didik capua tangen udi nak lem urusan tobo o atau Allah tmimo taubat ne, atau smikso tobo o kerno tobo o tmasuk tun zalim. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾
129. Allah temwan kute do ade nak lenget ngen bumai. Si mlei apun ngen api do Si lok, smikso api do Si lok, Allah Maha Mlei Apun ngen Maha Pnyayang. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾
130. Wahai tun berimen, jibeak ba udi mbuk riba blipet, btakwa ba udi magea Allah supayo udi butung. يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾
131. Nliaro ba awok udi kundi opoi nrako, do sendio utuk tun kafia. وَآتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾
132. Taat ba magea Allah ngen Rasul, supayo udi dapet rahmat. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾
133. Segro ba udi minoi apun ngen Tuhan, ngen magea surgo do luas ne srail ngen lenget ngen bumai do sendio utuk tun btakwa. * وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾
134. (Adeba) tun do menafkahkan (harto ne), nak waktau lapang ngen waktau spit, ngen tun do tmaen hmengiak ne ngen mlei maaf (saleak) tun. Allah tujau ngen tun do kemerjo uleak baik. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾
135. Ngen tun do amen si kemerjo kerjo kidek atau smaro awok dewek, (segro) minget Allah, Sudo o minoi apun utuk doso-doso ne, api igai do dapet mlei apun kecuali وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

Allah? Tobo o coa kulo temrus ulek kidek o, kerno si bi namen.	 وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
136. Bales utuk tobo o adeba apun kundi Tuhan ngen sergo do ade tang aai-tang aai ngalia nak beak ne, tobo o selamo ne nak di. Do o ba do paling baik pahalo utuk tun kemerjo baik.	 أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ 
137. Nyen bahwa bi ade sunnah-sunnah (Allah) waktau ati gen udi, kerno o paneu ba udi moi kute arah bumai, utuk kemliak gero ksudo tun do muker (Rasul-rasul).	 قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ 
138. Dyo ba (al-Quran) sbagai keterangan do jlas utuk kute manusio, ngen jijai ptunjuk serto plajaran utuk tun betakwa.	 هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ 
139. Jibeak kulo ko (mraso) coa kuet, ngen duko, sbab udi paling lkat (drajat ne), amen udi tun berimen.	 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا ۗ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ 
140. Amen udi (nak prang Uhud) dapet sileak, mako tobo o kulo (nak prang Badar) dapet sileak awei o. Maso (jayo ngen ajua) o, keme gmilia nak antaro manusio (supayo tobo o dapet plajaran), supayo Allah mlei beda tun berimen (ngen tun kafia) ngen supayo kulo pao kundi udi jnijai-Ne (matei sbagai) syuhada. Allah coa snang ngen tun zalim.	 إِن يَمَسُّكُمْ فِي ذٰلِكُمْ فَسَوْءَ مَا يُسْأَلُ عَنْكُمْ مِنَ الْقَوْمِ فَسْءَلُهُمْ تَلِيكًا  أَلْيَوْمِ نَدَّاءٍ بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ  ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 
141. Ngen kulo supayo Allah mbersih tun berimen (kundi doso ne) ngen munuak tun kafia.	 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ 
142. Jano udi kmiro bahwa udi akan masuk sergo, padahal ati nyato utuk Allah tun do jihad nak antaro udi ngen ati tau tun do sabar.	 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ  جَاهِدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِينَ 

143. Udi bnea-bnea minoi matei (syahid) waktau udi ati mraso ne, mako (uyo) udi bi mding ngen kemliak ne.
- وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٣﴾
144. Muhammad kulo cuma Rasul, seblum ne bi liwet bebrapo Rasul. Jano amen si mninggea atau nunuak tun, udi belek kelua kundi Islam (murtad)? Api do murtad, mako si coa kan mrugai Allah gok didik. Allah akan mlei bales utuk tun do bsyukur.
- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَذَّكَّرُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿٤٤﴾
145. Tip-tip do ade nyabai coa kan matei kecuali ngen izin Allah, do o ketetapan do bi tentep waktau ne. Api do msoa pahalo denyo, mako Keme mlei ngen si pahalo (denyo) o, api kulo msoa pahalo akhirat , keme mlei kulo pahalo (akhirat) o, Keme akan mlei bales ngen tun do bsyukur.
- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنهَا وَمَن يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿٤٥﴾
146. Dau Nbai do prang do milau dau pengikut ne do betakwa. Tobo o coa (ijai) lemah kerno musibah do kno magea si nak dalen Allah, coa patiak smangat ngen coa kulo nyereak (ngen musuak). Allah cito ngen tun do sabar.
- وَكَايْنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ سَجِبُ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾
147. Coa gen luyen knecek ne , cuma duo, “Ya Tuhan keme, napun ba doso-doso keme ngen kerjo-kerjo keme do blebiak agiak (nak lem) urusan keme, tentep kulo pendirian keme, serto tnulung ba keme magea tun kafia”.
- وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٤٧﴾
148. Mako Allah mlei tobo o pahalo nak denyo ngen pahalo do baik nak akhirat. Allah cito tun do mnea uleak baik.
- فَقَاتَلَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ سَجِبُ الْحَسِنِينَ ﴿٤٨﴾
149. Wahai tun berimen! Amen udi patuh ngen tun kafia, mako si akan melek udi moi blakang (murtad atau kelwea kundi Islam), mako udi akan belek ijai tun rugai.
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿٤٩﴾

150. Tapi cuma Allah ba do mlindung udi, Si ba pnulung do paling baik.

بَلِ اللَّهِ مَوْلَانُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

151. Akan Keme mpek asai saben nak atei tun kafia, kerno tobo o demwai Allah ngen seseatu do Allah coa tmuun keterangan tentang o. Kakea belek tob o adeba nrako. Do o ba do paling kidek kakea belek utuk tun zalim.

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

152. Nyen, Allah bi mnea janjai Ne ngen udi, waktau udi munuak tobo o ngen izin Ne sapei waktau udi Imah ngen slisiak tentang o ngen coa peduli ngen priteak Rasul sesudo Allah kemten gesi do udi snang. Nak antaro udi ade tun do kemlok denyo ngen ade kulo do kemlok akhirat. Sudo o Allah memalingkan udi kundi tobo o utuk mujai udi, tapi Si bi mlei maaf udi. Allah temwan karunia (do nlei Ne) magea tun berimen.

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَا مَا تَحِبُّونَ ۚ مِّنكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

153. (Ninget ba) waktau udi mlilai, coa jeling igai, Rasul (Muhammad) nak antaro (kwat-kwat) udi do luyen mdeu udi (tun do mlilai), kerno o Allah m'us asai sdih supayo udi coa sdih (igai) magea gesi do luput kundi udi ngen magea gesi do kno udi. Allah Maha Tliti gesi do udi kemerjo.

﴿١٥٣﴾ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُوتُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُحْرَانِكُمْ فَأَتَيْتُمُ غَمًّا بَعِيرًا لِّكَيْلًا تَحْزِنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصْبَحَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

154. Sudo o udi sdih, Allah tmuun asai aman atei (brupo) stekuk utuk pao anggota udi, do luyen renyeng kerno sako ne kidek ngen Allah awei dugo tun jahilyah, tobo o tenai : “jano ade utuk te (capua tangen Allah) lem urusan yo?”, jnawab ba : “nyen bahwa kute ne nak tangen Allah”. Tobo o munyin nak lem atei ne gesi do coa si tem'ang ngen udi. Tobo o madeak : amen ade utuk te (hok capua tangen Allah) nak lem urusan yo, mako do o

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ

coakan matei (aleak) nak yo”. Nadeak ba skiro ne udi nak dasei, mako api do bi takdir ne lok matei nunuak tun mako si akan kelwea moi kakea nek nunuak tun o”. Allah (mnea io) lok mujai gesi do ade nak lem dado udi, ngen lok mersi do ade nak lem atei udi. Allah Maha Namen gesi isai atei.

الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

155. Nyen bahwa tun do belek antaro udi waktau temau dwai pasukan o, Cuma tobo o ba do nike syetan, kerno salek do kenrejo ne (waktau dong o). Allah bi mlei maaf ngen tobo o. Nyen bahwa Allah Maha Pengampun ngen Maha Penyantun.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

156. Hai tun berimen, jibeak ba udi awei tun kafia (tun munafik) o, do madeak ngen pasuak-pasuak ne amen si paneu uak atau prang : “Amen ba si sesamo ngen ite mako si coa kan matei ngen coa nunuak tun”. Akibat (kundi cayo ne) o, Allah mlei asai nyesal lai nak lem atei ne. Allah midup ngen munuak. Allah kemliak gesi do udi kemerjo.

يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ نَحِيءٌ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

157. Nyen, amen udi nunuak tun nak dalen Allah atau matei, mako apun ngen rahmat-Ne lbiak baik (utuk udi) kundi hok dapet prang do knopoa.

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

158. Nyen amen udi mninggea atau nunuak tun, pasti ngen Allah bae udi knopoa.

وَلَيْنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

159. Mako kerno rahmat Allah ba, ko temwan sifet lemeak lembut magea tobo o. Amen ko bsikap kras ngen tlo atei, mako tobo o akan nge'uak kundi nu. Kerno o nlei ba maaf mageak tobo o, ngen kinoi ba apun utuk ne, musyawarah ba ngen tobo o nak lem urusan o, Amen udi bi dapet bulet kecek, mako semreak ba ngen Allah. Nyen Allah snang ngen tun do betawakal.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفَقَدْ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

160. Amen Allah tmlung udi, mako coa gen do dapet maleak udi. Amen Allah munyau udi (coa tmlung), mako api do dapet tmlung udi luyen kundei Allah sudo o?. Mako tiap tun berimen tawakal ba ngen Allah.
161. Coa mungkin nbai khianat nak lem harto prang, api do khianat nak lem urusan hok prang yo mako pado bilai kiamat si akan neko mbin gesi do khianat ne o, sudo o tip tun dapet bales utuk gesi do kenerjo ne (ngen bales) adea, tobo coa kan tpike.
162. Mako ade tun do milau ridho Allah srai ngen tun mbin m'engia Allah ?, kakae ne nak nrako Jahannam. Do ba kakea do paling kidek.
163. (Kedudukan) tobo o btiket-tiket nak adep Allah, Allah Maha Kemliak gesi do tobo o kernerjo.
164. Nyen, Allah bi mlei karunia Ne magea tun berimen waktau (Allah) mutus do Rasul (Muhammad) nak tngea-tngea tobo o kundei masyarakat ne dewek, do mbaco Kiteb (Al-Quran) ngen hikmah (Sunnah), walau seblum ne, tobo o bnea-bnea lem keadaan seset.
165. Getai kulo ko (heran) waktau kno musibah (alek lem prang Uhud), padahal udi bi mlei musibah dwai kilai lipet (magea musuak-musuak udi nak prang Badar) udi madeak : “Kundei ipe neko ne (alek) yo?” Nadeak ba, “Do o kundei (ksaleak) udi dewek”. Nyen, Allah Maha Kuaso ngen kute ne.
166. Gen do kno udi waktau jijai btemau (prang) antaro dwai pasukan o adeba ngen izin Allah, supayo Allah mujai api tun do (bnea-bnea) berimen.

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾

أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

167. Utuk mujai tun munafik, magea tobo o bi nadeak, “maro ba prang nak dalen Allah atau mbela ba (awok nu). Tobo o madeak, “skiro ne keme namen (gero cao) prang, pasti keme milau.” Tobo o pado bilai o lbiak paok ngen kafia kundei berimen. Tobo o madeak ngen bibia ne gesi do coa sesuoi ngen isai atei ne. Allah lbiak namen gesi do si munyin.
- وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَنقُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ
168. (Tobo o adeba) tun do madeak ngen pasuak-pasuak ne supayo coa milau prang, “skiro ne tobo milau ngen ite, pasti ba si coa nunuak tun.” Nadeak ba, “tengeak ba maut o kundei awok udi, amen udi tun do bnea ne”.
- الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
169. Cibeaq nyen udi sako tun do nunuak tun nak delen Allah o matei, sebnea ne tobo o idup, nak adep Tuhan ne ngen dapet jerkai.
- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ
170. Tobo o snang ngen karunia Allah, ngen snang atei magea tun do tninggea ne do ati smusul si, kerno coa gen asai saben nak atei ne coa kulo duko.
- فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَدَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
171. Tobo o snang atei ne ngen nikmat serto karunio Allah. Allah nyen coa kan mnea sesio pahalo tun berimen.
- * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
172. (Maksud ne) tun do ta'at magea priteak Allah ngen Rasul sesudo si dapet sileak (nak prang Uhud). Tun do mnea uleak baik ngen betakwa, antaro tobo o dapet pahalo lai.
- الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرَحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ
173. (Maksud ne) tun (do ta'at magea Allah ngen Rasul) waktau tun madeak ngen si, “Tun (Sukau Quraisy) bi kmopoa pasukan utuk semrang udi, kerno o saben ba ngen tobo o,” ternyato (kecek) o tmam-beak
- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(kuet) imen ne dan si jmawab, “cukup ba Allah (jjai ptulung) keme, Si ba do paling baik mlindung.

174. Mako tobo o belek mbin nikmat ngen karunio (do lai) kundi Allah, si coa kno bencano ngen si milau gesi do ridho Allah. Allah temwan karunio lai.
- فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسَهُمْ سُوءٌ
وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾
175. Nyen tobo o cuma syetan do smaben (udi) ngen kekawat stia ne, kerno o jibeak ba udi saben ngen si, tapi saben ba ngen-Uku, amen udi bnea-bnea berimen.
- إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾
176. Jibeak kulo ko (Muhammad) renyeng magea tun do mudeak belek ijai kafia, nyen bahwa gok didik tobo o coa mrugai Allah. Allah coa kan mlei bagiak (pahalo) magea tobo o nak akhirat, ngen dapet sikso bnek.
- وَلَا تَخْزَنكُ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يُضْرُوا
اللَّهُ شَهِيدٌ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾
177. Nyen, tun do tmukua kafia ngen imen, gok didik coa mrugai Allah, si akan dapet sikso do pelgiak.
- إِنَّ الَّذِينَ آسَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يُضْرُوا اللَّهُ شَهِيدٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾
178. Jibeak nyen gok dbat, tun kafia o sako bahwa tenggat waktau do nlei Keme magea si, lbiak baik utuk ne. Nyen tnggat waktau do nlei Keme magea si o supayo doso ne goyo tambeak, mako si dapet sikso do hino.
- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّهِمْ خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ
إِنَّمَا نُمَلِّهِمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾
179. Allah coa kan munyau tun berimen awei keadaan udi uyo, sapei Si mbeda do kidek kundi do baes. Allah coa kan kemten ngen ko do ghaib, tapi Allah miliak api do Si kemlok nak antaro Rasul-Rasul Ne. Kerno o, berimen ba magea Allah ngen Rasul-Rasul Ne. Amen udi berimen ngen bertakwa , mako udi akan dapet pahalo lai.
- مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ
يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۗ فَتَمَنُّوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

180. Jibeak kulo gok dbat tun do kisit ngen gesi do Allah mlei ngen si kundi karunia Ne, sako bahwa (kisit)
o baik utuk ne, padahal (kisit) o kidek utuk ne. Jano (hok) do si kisit o lok knalung ngen si nak bilai kiamat?. Allah ba temwan (gesi do ade) nak lenget ngen bumai. Allah Maha tlti magea gesi do udi kemerjo.
- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾
181. Nyen Allah bi tmi'uk kecek tun (Yahudi) do madeak, "Nyen Allah o peset, keme kayo". Keme akan cmatet kecek ngen uleak ne munuak Nbai-Nbai coa sebab, keme akan madeak (magea si), "Nding ba kei nu sikso do ngembem".
- لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾
182. Do o kerno kerjo tangen udi dewek, Allah coa zalim magea hamba-hamba Ne.
- ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾
183. (Maksud ne) tun (yahudi) do madeak, "Allah bi mriteak keme, supayo keme coa berimen magea Rasul, amen si ati mbin kurban do nmbuk opoi" Nadeak ba (Muhammad), "Nyen, beberapa Rasul seblum ku bi neko mbin bukti-bukti do jlas ngen mbin opoi do udi madeak, tapi getai udi munuak si amen udi tun do bnea".
- الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نُوْمِنَ لِرَسُوْلِ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَأْكُلُهٗ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالذِّكْرِ فَلَمَّ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾
184. Mako amen si coa maham (coa cayo) ko (muhammad), mako (Keme mlei namen) bahwa Rasul-Rasul sblum nu coa kulo si cayo, si (Rasul-Rasul) mbin mukjizat do nyato, Zabur ngen Kiteb do mlei pne'ang do seperno.
- فَإِن كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾
185. Tip do bnyabai akan matei. Cuma nak bilai kiamat ba nlei ca'o seperno bales utuk nu. Api do n'uak kundi nrako ngen masuk nak lem sergo, nyen, si mnang. Hidup nak denyo yo cuma snang do mngike (tgoa).
- كُلُّ نَفْسٍ ذٰبِقَةٌ لِّلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفُّوْنَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۗ ﴿١٨٥﴾

186. Udi pasti akan nujai ngen hok, ngen dirai udi. Pasti udi akan dau tmi'uk do mgis atei kundi tun do bi nlei kiteb sblum nu ngen kundi tun musyrik (demwai Tuhan). Amen ko sabar ngen btakwa, mako do o tmasuk do (patut) dapet pertamo perhatian.
- ﴿ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾
187. (Ninget ba), waktau Allah mlei janjai kundi tun do nlei kiteb, “Udi harus bnea-bnea tem'ang (isai kiteb yo) magea manusio, jibeak udi munyin,” sudo o si muwang (janjai o) moi belek kdong ne serto jemwoa ngen go mueak. Mako do ba paling kidek jewoa do kenerjo ne.
- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَرُوا بِهِ ۖ ثُمَّ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾
188. Jibek gok dbat ko sako bahwa tun do snang ngen gesi do si kemerjo, lok ujai ngen kerjo do si coa mnea, jibeak ba ko sako si akan lolos kundi sikso. Si akan dapet sikso pelgiak.
- لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَهُمْ لَا يُحِبُّونَ أَنْ تَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾
189. Allah ba do temwan kerajaan lenget ngen bumai, Allah Maha kuaso ngen kekute ne.
- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾
190. Nyen, cmipto lenget ngen bumai, ngen gitei kelmen ngen kbilai ade tando-tando (Klai Allah) utuk tun do ade akea.
- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
191. Tun do minget Allah wakatu je, tmot atau guling, si meker tentang cmipto lenget ngen bumai (mako si madeak), “Ya Tuhan keme, coa sesio ko cmipto kekute yo, Maha Suci Ko, nlung ba keme kundi sikso nrako”.
- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾
192. Ya Tuhan keme, tun do ko mpek nak nrako, mako nyen ko bi mino si, coa gen gok do tun do tmulung tun zalim.
- رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

193. Ya Tuhan keme, keme tmi'uk tun do majok berimen, “Berimen ba udi magea Tuhan udi”. Mako keme berimen. Ya Tuhan keme, napun ba doso-doso keme ngen napas ba salek-saleak keme serto jnijai ba keme matei ngen tun do berbakti.
- رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا رَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾
194. Ya Tuhan keme, nlei ba keme gesi do ko jmanjai utuk keme mlalui Rasul-Rasul Nu. Jibeak nyen Ko mino keme nak bilai kiamat. Nyen, Ko coa pernah muker janjai.
- رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾
195. Mako Tuhan kmabul kinoi ne (Si madeak), “Nyen, Uku coa kan sesio ngen amea tun do bramea nak antaro udi, smanei ataupun slawei, (kerno) pao udi adeba (kturunan) kundei do luyen”. Mako tun do hijrah, nusir tun kundei sadei ne, do snikso tun nak dalen-Ku, do prang ngen do nunuak tun, pasti Ku mapus saleak ne, pasti Ku mpek nak sergo do ngalia tang aai-tang aai nak beak ne, sebagai pahalo kundei Allah. Nak adep Allah ade pahalo do baik.
- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا لَا أَكْفِرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾
196. Jibek nyen udi tpike ngen kerjo tun kafia (do ade) nak kute negrai.
- لَا يَغْرِبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾
197. Do o cuma snang sementaro, sudo o kakea belek ne adeba nrako Jahannam. Do ba paling kidek kakea tinggea.
- مَتَّعٌ قَلِيلٌ ۗ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾
198. Tapi tun do betakwa magea Tuhan ne, si akan dapet sergo do ngalia tang aai-tang aai nak beak ne, si slamo ne nak lem o sebagai karunio kundei Allah. Gesi do nak adep Allah lbiak baik utuk tun do bebakti.
- لَيْكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

199. Nyen, nak antaro tun ahli kiteb ade do berimen magea Allah, ngen gesi do tnuun ngen si, kerno si mreudeak atei ne magea Allah, si coa jemwoa ayat-ayat Allah ngen go mu'eak. Si dapet pahalo lai nak adep Tuhan ne. Nyen, Allah paling gancang itung bales Ne.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايِنَتِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

200. Wahai tun berimen! Bsabar ba udi ngen kenwet ba ksbar udi ngen tetep ba sesiap (nak batas negrai udi), btakwa ba ngen Allah supayo udi butung.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾